

(FAQs) عمومی سوالات

(1) میں اپنے پیسے بینک میں جمع کروانا ہوں، تو پھر آپ کے پاس سرمایہ کاری کیوں کروں؟

بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے وقت کے ساتھ اپنی قدر کھو بیٹھتے ہیں۔

گولڈ میں سرمایہ کاری کر کے آپ نہ صرف اپنے پیسے کی قدر کو کم ہونے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ اس کی حقیقی قدر میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔

آپ کی سرمایہ کاری فزیکل گولڈ (یعنی اصلی سونے) میں کی جاتی ہے جو کہ ایک محفوظ اور باقاعدہ (ریگولیٹڈ) سرمایہ کاری ہے، جہاں آپ کا سرمایہ ایک حقیقی سونے کی صورت میں محفوظ ہوتا ہے۔

(2) کیا یہ سرمایہ کاری اسلامی اصولوں کے مطابق ہے؟

جی ہاں! یہ سرمایہ کاری اسلامی اصولوں کے مطابق ہے کیونکہ

اصل سوناپنی ایم ای ایکس کے محفوظ والٹس میں موجود ہوتا ہے، جس کی آپ ڈیلیوری بھی لے سکتے ہیں۔

اس میں سود یا منافع نہیں لیا جاتا، اس لیے یہ شرعی طور پر جائز ہے۔

پی ایم ای ایکس نے شرعی تصدیق کے لیے درخواست بھی دی ہے اور جیسے ہی یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہوگا، صارفین کو مطلع کیا جائے گا۔

(3) بینک میں تو سود ملتا ہے، یہاں کیا فائدہ ہے؟

بینک کے سیونگزر اکاؤنٹ میں سود لینے کے لیے بڑی رقم رکھی جاتی ہے۔

یہاں سود نہیں ملتا، بلکہ فائدہ سونے کی قیمت میں اضافے سے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سونے کی قیمت بڑھتی ہے، ویسے ویسے آپ کے اثاثے کی قدر بھی بڑھتی ہے۔

آپ صرف 370 روپے (مثال کے طور پر) سے سرمایہ کاری شروع کر سکتے ہیں اور جب چاہیں رقم نکال سکتے ہیں۔

تاریخی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ سود کی شرح سے کہیں زیادہ رہا ہے۔

(4) میں امان کیپٹل کو نہیں جانتا، تو میرا سرمایہ کس طرح محفوظ ہے؟

امان کیپٹل 2016 سے پی ایم ای ایکس کارجسٹریڈ بروکر ہے اور مالیاتی منڈی میں اپنی خدمات مہیا کر رہا ہے۔

سونہ خریدنے کے لیے آپ اپنی رقم پی ایم ای ایکس کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست جمع کروائیں گے نہ کہ امان کیپٹل کو دینگے۔

تمام تجارت اور سیٹلمنٹ پی ایم ای ایکس کے ذریعے ہوتی ہے جو کہ ایس ای سی پی کے تحت پاکستان کا واحد ریگولیٹڈ کموڈٹی ایکسچینج ہے۔

(5) اگر میں کسی مہینے رقم جمع نہ کروا سکوں تو کیا ہوگا؟

سرمایہ کاری مکمل طور پر آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔

رقم جمع کروانے کی کوئی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ حد نہیں۔

اگر کسی مہینے رقم جمع نہ کروائیں تو کوئی جرمانہ یا پینالٹی نہیں لگے گی، بس آپ اس مہینے کی بچت سے محروم رہیں گے۔

(6) اگر کبھی کم یا زیادہ رقم ہو تو کیا میں اپنی مرضی سے رقم جمع کروا سکتا ہوں؟

جی ہاں! آپ اپنی سہولت کے مطابق کم یا زیادہ جتنی رقم بھی چاہیں جمع کروا سکتے ہیں۔ اس پر کوئی پابندی نہیں، یہ مکمل طور پر آپ کی بچت پر منحصر ہے۔

(7) کیا میں جب چاہوں اپنی رقم واپس حاصل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں! آپ کسی بھی وقت اپنی رقم واپس حاصل کر سکتے ہیں۔

بس پی ایم ای ایکس کے بیک آفس میں درخواست دینا ہوگی اور 2 ورکنگ ڈیز میں آپ کی رقم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی۔ (کاروباری دن: پیر تا جمعہ)

(8) میں کمیٹی ڈالٹی ہوں، تو اس میں اور اس سرمایہ کاری میں کیا فرق ہے؟

کمیٹی میں رقم جمع ضرور ہوتی ہے مگر وقت کے ساتھ اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔

گولڈ میں سرمایہ کاری نہ صرف آپ کے پیسے کی قدر کو محفوظ رکھتی ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی کرتی ہے۔

یہاں آپ کو سونے کی ملکیت بھی حاصل ہوتی ہے اور جب چاہیں رقم واپس لے سکتی ہیں۔

(9) ایک تولہ سونا بنانے میں تو کافی وقت لگے گا؟

یہ آپ کی ماہانہ بچت پر منحصر ہے۔

مثال کے طور پر اگر آج کی قیمت کے مطابق ایک تولہ سونا 3 لاکھ 70 ہزار روپے کا ہے اور آپ ہر مہینے 10 ہزار روپے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو تقریباً 3 سال میں آپ ایک تولہ سونے کے مالک بن سکتے ہیں۔

(10) کیا رقم جمع یا نکالنے پر کوئی کنٹری ہوگی؟

پہلی بار رقم جمع کروانے پر کوئی چارج نہیں۔

پہلی بار ”ون بل“ کے ذریعے رقم کی منتقلی پر بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔

آئندہ رقم جمع کروانے کے لیے آپ کو PMEX کی طرف سے

IBAN, SCA, SMS یا Email کے ذریعے فراہم کیا جائے گا اور کے ذریعے رقم منتقل کرنے پر تقریباً 28 روپے + ٹیکس چارج ہوں گے۔

رقم نکالتے وقت پی ایم ای ایکس فیس، امان کیپٹل کالمیشن اور بینک کے آئی بی ایف ٹی چارجز منہا کیے جائیں گے۔

(11) اگر سونے کی قیمت کم یا زیادہ ہو گئی تو کیا ہوگا؟

اگر آپ نے سونا خرید رکھا ہے اور قیمت بڑھ گئی تو آپ کو منافع ہوگا۔

اگر قیمت کم ہوئی تو صرف اس وقت نقصان ہوگا جب آپ اسے بیچیں گے۔

اگر آپ اپنا خرید اہوا سونا بیچتے نہیں، تو قیمت کم ہونے پر آپ کو حقیقی نقصان نہیں ہوگا اور آپ قیمت دوبارہ بڑھنے کا انتظار کر سکتے ہیں۔

تاریخی طور پر سونا ایک مستحکم اور طویل مدتی اثاثہ سمجھا جاتا ہے جس کی قیمت عموماً وقت کے ساتھ بڑھتی ہے۔